

Maulana Azad National Urdu University
B.Com : I Semester Examination - April - 2021
BBCM101CCT: Financial Accounting

پرچہ : فینانشیل اکاؤنٹنگ

Time : 3 hrs

Marks : 70

ہدایات:

یہ پرچہ سوالات تین حصوں پر مشتمل ہے: حصہ اول، حصہ دوم، حصہ سوم۔ ہر جواب کے لئے لفظوں کی تعداد اشارہ ہے۔ تمام حصوں سے سوالوں کا جواب دینا لازمی ہے۔

1. حصہ اول میں 10 لازمی سوالات ہیں جو کہ معروضی سوالات/خالی جگہ پر کرنا/مختصر جواب والے سوالات ہیں۔ ہر سوال کا جواب لازمی ہے۔ ہر سوال کے لیے 1 نمبر مختص ہے۔ (10 x 1 = 10 Marks)
2. حصہ دوم میں آٹھ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی پانچ سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً دو سو (200) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 6 نمبرات مختص ہیں۔ (5 x 6 = 30 Marks)
3. حصہ سوم میں پانچ سوالات ہیں۔ اس میں سے طالب علم کو کوئی تین سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ ہر سوال کا جواب تقریباً پانچ سو (500) لفظوں پر مشتمل ہے۔ ہر سوال کے لیے 10 نمبرات مختص ہیں۔ (3 x 10 = 30 Marks)

حصہ اول

سوال نمبر : 1

خالی جگہوں کو پُر کیجیے۔

- (i) مستقل اثاثوں کی مثالیں _____ ہیں۔
 - (ii) اکاؤنٹنگ کے ہر عناصر کو روپے/پیسے سے پیمائش کرنا ہے Concept _____ ہے۔
 - (iii) Nominal Accounts کا اصول _____ ہے۔
 - (iv) Purchase Book میں صرف _____ خریداری کو ہی دکھایا جاتا ہے۔
 - (v) سدہ کالمی کیش بک (Three Column Cash Book) میں نقد (Cash) بینک (Bank) اور _____ کا لم کو دکھلایا جاتا ہے۔
- بتائیے کہ ذیل کے بیانات صحیح یا غلط ہیں۔

- (vi) Sales Book کی Debit بیلنس ہوتی ہے۔ (صحیح/غلط)
- (vii) بینک کے اخراجات کو پاس بک میں Debit جانب بتلاتے ہیں۔ (صحیح/غلط)
- (viii) Entity Concept کے مطابق کاروبار اور مالک کی شناخت ایک ہوتی ہے۔ (صحیح/غلط)
- (ix) Expenditure A/c کے Debit بیلنس ہوتے ہیں۔ (صحیح/غلط)
- (x) Accounting Equation کے مطابق $Liability = Assets - Capital$ ہوتا ہے۔ (صحیح/غلط)

P.T.O

حصہ دوم

(2) Double Entry System کی تعریف کیجئے۔

(3) Matching Concept کو مثالوں کے ساتھ بیان کیجئے۔

(4) Book Keeping اور Accounting کے درمیان امتیاز کیجئے۔

(5) ذیل کے لیٹن دین کے Journal Entries کیجئے۔

Introduced Capital with cash = 50000

Deposited in Bank = 40000

Salaries paid = 15000

Commission Received = 1500

(6) Trial Balance پر مختصر نوٹ لکھیے۔

(7) مندرجہ ذیل تفصیلات سے عارف خان کی بینک پاس بک (Bank pass book) کا بیلنس معلوم کیجئے۔

کیس بک میں 5000 روپے کا کریڈٹ (Credit) بیلنس ظاہر ہوتا ہے۔

1) Cheques issued but not yet presented for payment	2000
2) Cheques Deposited but bank not yet Credited	3000
3) Interest on overdraft not recorded in cash book	100
4) Bank charges not yet recorded in cash book	50
5) Interest on securities collected by bank but not yet recorded in cash book	500
6) Bank paid insurance premium on your behalf but no recorded in cash book	200
7) Amount deposited by customer directly into bank	1000

(8) ذیل کے لیٹن دین کو Ledger میں اندراج کیجئے۔

Sold goods to Rashid = 5000

Purchase goods from Rashid = 2000

Paid cash to Rashid = 1500

Received payment from Rashid = 3000

(9) ذیل کے غلطیوں کی اصلاح کیجئے۔

(i) Wages paid wrongly Debited to Building A/c = Rs.2000

(ii) Cash sales to Arif of Rs. 2000 not made Any Entry.

(iii) Rent paid shown in credit side of Rent A/c Rs.1000

(iv) Payment to Ram shown in Raj account of Rs.200

(v) Sales Book balance is shown more of Rs.2000

حصہ سوم

(10) ذیل میں دیئے گئے Plaza Electricals کے بیلنس سے سال ختم 31 مارچ 2018 کو Trading and Profit and Loss A/c تیار کیجئے۔

Sales	300000
Purchases	500000
Reruns inwards	10000
Return outward	15000
Opening Stock	30000
Wages	20000
Carriage inwards	5000
Carriage outwards	3000
Salaries	25000
General Expenses	10000
Rent and Rates	4000
Advertisement	5000
Bad debts	3000
Insurance	3000
Trade Expenses	2000
Depreciation	5000
Closing stock ad on 31st March 2018	50000

(11) غلطیوں (Error) کی تعریف کرتے ہوئے اس کے مختلف اقسام (Types) کی وضاحت کیجئے۔

(12) سرمایہ و مالی اخراجات (Capital and Revenue Expenditure) کو مثالوں کے ذریعہ تفصیل سے بیان کیجئے۔

(13) ذیل مواد کی Journal اندراجات کیجئے۔ اور ساتھ میں Ledger بھی تیار کریں۔

April 2018		Rs.
2	Cash Sales	15000
2	Paid Salaries	6000
6	Sold goods to Pankaj	10000
10	Cash purchases	5000
13	Cash to stationery	100
18	Goods taken by proprietor for personal use	1000
23	Purchased goods from Manu	13000
25	Received from Pankaj	4000
27	Sold goods for cash	4000
29	Received interest on investment	1400

2018 JAN		Rs.
JAN.1	Balance of Cash in Hand	400
"	Balance in Bank (overdraft)	5000
4	Sold goods for cash	3000
6	Collected from Shahid by cheque and allowed discount of Rs.200	8000
10	Purchased foods for cash	2000
10	PUrchased goods by cheque	3000
11	Paid to Roohi by cheque and discount received Rs.100	2500
12	Paid commission to agent	500
15	Purchased office furnitures by cash	2000
16	Paid Rent	100
17	Drew a cheque for personal use	1000
18	Cash sales	5000
20	Collected from Diya in cash	4000
20	Deposited in bank	4000
23	Dividend Recieved by Cheque	400
23	Deposited in Bank	400
28	Paid Office Salaries by Cheque	2000
29	Deposited Cash into Bank	2000